

Lesson # 8 , 2017

A #	Juz # 1	سورة البقرة	Ayats 30-39	S #
	English meaning	Urdu meaning	Arabic words	
30	The angels	فرستوں سے	لِلْمَلَائِكَةِ	1
	Khalifah /successor	نائب	خَلِيفَةً	2
	(he) sheds	بہائے گا	يَسْفِكُ	3
	The blood	خون	الِدِّمَاءِ	4
	We glorify	ہم بے عیب کہتے ہیں	نُسَبِّحُ	5
	We sanctify	ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں	نُقَدِّسُ	6
31	(he) taught	سکھائے	عَلَّمَ	7
	The names	نام	الْأَسْمَاءِ	8
	(he) displayed them	سامنے کیا انہیں	عَرَضَهُمْ	9
	(you all) tell ! inform me	بتلاو مجھے	أَنْبِئُونِي	10
	(of) these	ان	هَٰؤُلَاءِ	11
32	You glory	پاک ہے تو	سُبْحَانَكَ	12
	(is) for us	واسطے ہمارے ، ہمیں	لَنَا	13
	You	تم ، تو	أَنْتَ	14
	(are) the always all wise	حکمت والا	الْعَكِيمِ	15

33	You (all) disclose	تم ظاہر کرتے ہو	تُبْدُونَ	16
34	You (all) hide	تم چھپاتے ہو	تَكْتُمُونَ	17

	(you all) do saajdah	سجدہ کرو	اسْجُدُوا	18
	Iblis / satan	ابلیس	إِبْلِيسَ	19
	(he) refused	انکار کیا	أَبَى	20
	(he) acted proudly	تکبر کیا	وَاسْتَكْبَرَ	21
	(he) was /became	ہو گیا	كَانَ	22
35	(you) live!	تم رہو	أَسْكُنْ	23
	(you two) eat	تم دونوں کھاؤ	كُلَا	24
	Freely / comfortably	اطمینان سے	رَغَدًا	25
	Where (ever)	جہاں کہیں	حَيْثُ	26
	(you two) wished	تم دونوں چاہو	شِئْنِمَا	27
	Don't (you two) go near	مت قریب جانا (دونوں)	لَا تَقْرَبَا	28
	This	یہ	هَذِهِ	29
	The tree	درخت	شَجَرَةً	30
	Consequently you	تم ہو جاؤ گے (تم دونوں)	فَتَكُونَا	31
	Those who do wrong	ظالم	ظَالِمِينَ	32
36	Then (he) caused to slip them (two)	پھر پھسلا یا ان دونوں کو	فَأَزَلَّهُمَا	33
	(you all) get down	اتر جاؤ	إِهْبِطُوا	34
	Some (of) you all	بعض تمہارے	بَعْضُكُمْ	35

	(are) enemy	دشمن	عَدُوٌّ	36
	A place to stay	ٹھکانا	مُسْتَقَرٌّ	37

	A temporary enjoyment	سامان، خرچ	مَتَاعٌ	38
37	A specific time	وقت	حِينَ	39
	Then (he) received	پھر حاصل کرلیے	فَتَلَقَى	40
	Some words	کلمے	كَلِمَاتٍ	41
	So (he) accepted tawbah upon	پس توبہ قبول کی	فَتَابَ عَلَى	42
	(is) the one who is most belenting	توبہ قبول کرنے والا	تَوَّابٌ	43
38	So when ever	پس جب	فَإِذَا	44
	(it) definitely come(to) you all	پہنچے تمہیں	يَأْتِيَنَّكُمْ	45
	From me	میری طرف سے	مِنِّي	46
	(he) followed	چلا (اتباع کی)	تَبَعَ	47
	A fear	کوئی خوف	خَوْفٌ	48
	(are) they (will)grieve	غمگین ہوں گے	يَحْزَنُونَ	49
39	They belied	جھٹلایا انہوں نے	كَذَّبُوا	50
	Our ayats	آیات ہماری	آيَاتِنَا	51
	(are) companions (of) the (hell) fire	دوزخ والے	أَصْحَابُ النَّارِ	52